



سوال

(220) فضائل و احکام عشرہ ذی الحجہ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ذو الحجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ذو الحجہ کے پہلے دس دن اپنی فضیلت اور بزرگی کی وجہ سے دوسرے دنوں پر خاص برتری اور خصوصیت رکھتے ہیں بلکہ افضل ایام الدنیا کے لقب سے ملقب ہیں جیسے کہ محدث بزار نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے (ترغیب ج ۲ ص ۱۹۹) اس لئے ان کے چند فضائل ہدیہ قارئین کیے جاتے ہیں۔

عشرہ ذوالحجہ کا ذکر قرآن مجید میں :

وَالْفَجْرِ ۱ وَنَيَالٍ عَشْرٍ ۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳ ... سورة الفجر

”قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور شفق کی اور وتر کی۔“

چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان دس راتوں سے عشرہ ذوالحجہ کی پہلی دس شبہائے مبارکہ مراد ہیں اصل الفاظ یہ ہیں :

وَاللَّيَالِي الْعَشْرَ الْمُرَادُ بِهَا عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ (وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف۔

پھر مسند احمد کے حوالہ سے حضرت جابر سے مروی ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے :

أَنَّ الْعَشْرَ الْأَضْحَى - رواه النسائي وهذا الإسناد رجاله لأبناس يحتم وعندي ان المتن في رفعه نكارة - وأذكر والله في أيام معدودات (البقرة: ركوع ۲۵)

ان چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔“ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایام معدودات سے ایام تشریق اور ایام معلومات سے ذوالحجہ کے پہلے دس دن مراد ہیں، یعنی ان دس دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔



حذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ محمدیہ

ج 1 ص 583

محدث فتویٰ